

پیارے اے جے ای (AJE) کے اسکالرز اور اہل خانہ/ فیملی ،

ہم 21-22 تعلیمی سال کے آغاز پر بہت خوش ہیں۔ آنے والے ہفتوں میں ایسے کئی مواقع آئیں گے جس میں ہم آپ سے رابطہ کر کے آپ کو جے برڈ اہل خانہ یعنی فیملی اور کمیونٹی کے بارے میں ہدایات دیں گے۔ سکول کے اس سال "آل اہل خانہ نیوہورائزز" میں ہمارے اسکالرز کی کامیابی کا راز مل کر کام کرنے میں ہے۔ برائے مہربانی نیچے دی گئی معلومات کو غور سے پڑھیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور رابطہ فرمائیں۔

| | |
|-----------------------|--|
| بروز ہفتہ ، 14 اگست | کارل چاویس وائی ایم سی بیک ٹو سکول بیش (ایونٹ) دن 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ سکالرز کو مفت کتابوں کا بیگ اور سکول کا سامان ملے گا۔ اس پتے پر پہلے سے رجسٹریشن لازمی کروائیں۔ پتہ: 2767 گران ویل سٹریٹ، ہائی پوائنٹ۔ نوٹ: رہائش کا ثبوت (ریزیڈینس پروف) لے کر آئیں۔ |
| بروز بدھ ، 18 اگست | اوپن ہاؤس دن 10:30 سے 11:30 بجے --- کنڈر گارٹن ، گریڈ 1 اور گریڈ 4 دن 01:00 سے 02:00 بجے --- گریڈ 2، گریڈ 3 اور گریڈ 5 |
| بروز جمعرات ، 12 اگست | اے جے ای اسٹاف اور ماسکوٹ کی طرف سے خوش آمدید کا پیغام |
| بروز سوموار ، 16 اگست | ٹیچر/اساتذہ سکالرز اور ان کے اہل خانہ / فیملی کو بلانا شروع کریں گے |
| بروز سوموار ، 23 اگست | سکول کا پہلا دن صبح 7:00 سے 7:25 تک پہنچنا ہو گا، واپسی 2:15 بجے |
| ہر اتوار کے دن | کنیکٹ - ایڈ (Connect-Ed) اور کلاس ڈوجو کے پیغام۔ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی معلومات دی جائیں گی۔ |

اساتذہ کی ذمہ داریاں/اسائنمنٹ: ہمارے اساتذہ اور اسٹاف پیر 16 اگست کو کلاس روسٹر/ لسٹ کو مکمل کرنے کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے تاکہ آپ کو آپ کے اسکالرز کے ہوم روم/ کمرہ جماعت کی معلومات فراہم کی جا سکے۔

اوپن ہاؤس: ہم بہت خوش ہیں کہ اوپن ہاؤس اس سال ذاتی طور پر ہوگا۔ سماجی فاصلے اور سب کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ، ہم اوپن ہاؤس کے اوقات کو گریڈ لیول کے حساب سے ترتیب دے رہے ہیں۔ براہ کرم آپ اوپن ہاؤس کے لئے اپنے مقررہ وقت پر آئیں۔ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے / طالب علم ہیں ، تو براہ کرم اپنے سب سے بڑے بچے کے بتائے ہوئے وقت پر آئیں۔ مثال کے طور پر ، اگر آپ کا ایک بچہ کنڈرگارٹن میں ہے اور دوسرا گریڈ 5 میں ہے ، تو آپ گریڈ 5 والے بچے کے وقت کے مطابق دوپہر 1:00 بجے اوپن ہاؤس کے لئے آئیں گے۔ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو اپنے سب سے بڑے بچے کے بتائے ہوئے وقت پر آئیں۔

براہ کرم یاد رکھیں کہ ہر ایک کو (بڑا ہو یا بچہ) سکول کے میدانوں / گراؤنڈ میں ہر وقت ماسک پہننا ضروری ہے۔ ماسک کو منہ اور ناک پر مناسب طریقے سے پہنیں۔

ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ بتائے گئے وقت پر اوپن ہاؤس میں شرکت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر آپ صبح/دوپہر کے مقررہ اوقات میں شرکت نہیں کر سکتے تو آپ شام 5:00 سے شام 6:00 بجے تک اساتذہ سے مل سکتے ہیں۔

ہمارے اے جے ای اسٹاف اور ماسکوٹ کی طرف سے خوش آمدید کا پیغام: ہمارے اسٹاف اور ماسکوٹ کا ویڈیو پیغام دیکھنے کے لیے جمعرات 12 اگست کو شام 6:00 بجے کلاس ڈوجو اور ہماری ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں۔

کارلا فلورس- ہانیستیروس ، پرنسپل۔
مایا بیل ، اسسٹنٹ پرنسپل۔